

اس تحقیقی مقالہ کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے باب میں اصل مصنف ایف سکاٹ فٹز جیرالڈ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں متن کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول کے کل نو ابواب ہیں۔ ترجمہ کرتے ہوئے انہی ابواب کی ترتیب روار کھی گئی ہے۔ تیسرے اور آخری باب میں حواشی و تعلیقات شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مقالہ کے آخر میں تمام کتابیات اور ذرائع درج ہیں جو تحقیق کے دوران مددگار رہے۔ اس تحقیقی مقالے کے بعد ناول کے متعلق میری رائے کافی حد تک مثبت ہو گئی۔ کیونکہ ناول کا اصل متن اس کی ادبی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔